

خزانہ خدا کی چاپیاں حباب خدا ﷺ کے ہاتھ میں



تصنیف لطیف

مفسر اعظم پاکستان، شیخ الحدیث والقرآن پیر طریقت، رہبر شریعت

مفہوم محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ العالی

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ﷺ

خزانہ خدا کی چابیاں

حبیب خدا علیہ وسلم کے ہاتھ میں

شہنشہ لطیف

شہنشہ لطیف، فقید الوقت، فیض ملت، مقرر اعظم پاکستان

حضرت علامہ ابوالصالح مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی (دامت برکاتہم اللہ عزیز)



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بيده ملکوت كل شئ وهو على كل شئ قادر.

والصلوة والسلام على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم الذي بعث علينا بشير ونذير وعلى آله البررة

الكرام وأصحابه الاتقياء العظام

پیش لفظ

اما بعد! نبی اکرم، شفیع معظم ﷺ ایسے ہی جملہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے

لِلْمُلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (پارہ ۱، سورۃ البقرۃ، ایت ۳۰)

ترجمہ: فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنائے والا ہوں۔

انبیاء علیہم السلام بالخصوص ہمارے نبی پاک ﷺ کے علی الاطلاق نائب اعظم و خلیفہ اکبر ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پارہ ۵، سورۃ النساء، ایت ۸۰)

ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اسی نے اللہ کا حکم مانا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسِّعُونَكَ رَأَيْمَا يَسِّعُونَ اللَّهَ (پارہ ۲۶، سورۃ الفتح، ایت ۱۰)

ترجمہ: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (پارہ ۹، سورۃ الانفال، ایت ۷۱)

ترجمہ: اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

یعنی آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور آپ ﷺ کی بیعت کو اپنی بیعت اور آپ ﷺ کے نکریاں مارنے کو

اپنی طرف منسوب فرماد کر آپ ﷺ کی جائشیں اور نیابت پر مہربشت فرمائی۔ اس معنی پر انبیاء و اولیاء کے تصرفات

و اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت کی حیثیت سے ہوں گے اور جو کچھ ان کی طرف سے ہو گا وہ منجانب اللہ ہو گا

انہی عطاۓ ہائے الہی سے خزانہ الہی کی کنجیاں بھی ہیں جن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ اکبر وہ

نائب اعظم ﷺ کو عطا فرمائیں۔ یہ رسالہ فقیر اسی کے اثبات میں تحریر کر کے اہل اسلام کی خدمت میں ہدیۃ و تکھیہ پیش

گرقوں افتخار ہے عز و شرف

محمد فیض احمد اولیٰ رضوی غفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان

باب نمبر ۱

قرآن مجید

(۱) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (پارہ ۲۶، سورۃ الفتح، آیت ۱۰)

ترجمہ: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ تھی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

تفسیر

اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے لیکن آیت میں نبی پاک ﷺ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ (قدرت) میں ہے وہ اپنے نبی پاک ﷺ کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ یعنی قدرت کا یوں ذکر فرمایا

(۲) تَبَرَّكَ الَّذِي بَيَّنَهُ الْمُلْكُ (پارہ ۳۹، سورۃ الملک، آیت ۱)

ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قضاۓ میں سارے ائمک ہے۔

اور فرمایا

(۳) كَسْبُهُنَّ الَّذِي بَيَّنَهُ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (پارہ ۲۳، سورۃ یسوس، آیت ۸۰)

ترجمہ: تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے۔

فائدہ

ملک عالم سفلی اور ملکوت و عالم علوی کے نام ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مصطفیٰ ﷺ کا ہاتھ جیسا کہ پہلی آیت میں صاف بتایا۔

فائدہ

اللہ تعالیٰ ہر شیل میں مثالیہ سے پاک اور منزوہ ہے۔ چنانچہ فرمایا

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (پارہ ۲۵، سورۃ الشوریٰ، آیت ۱۱)

ترجمہ: اس جیسا کوئی نہیں۔

لیکن با وجود اس کے بدر میں حضور ﷺ نے کفار پر کنکریاں پھینکیں تو انہیں بھی اپنی طرف منسوب فرمایا۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (پارہ ۹، سورۃ الانفال، ایت ۷۱)

ترجمہ: اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

ہمارا عقیدہ

اسی لئے ہمارا عقیدہ نبی پاک ﷺ کے لئے عطاۓ الہی کا ہے اور عطاۓ الہی کے یہودی مکر تھے۔

نبی پاک ﷺ کو عطائے الہی

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

(۲۳) قُلِ اللَّهُمَّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُرْبِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مَمَنْ تَشَاءُ (پارہ ۲۳، سورۃ آل عمران، ایت ۲۶)

ترجمہ: یوں عرض کرائے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے۔

شان نزول

فتح کمل کے وقت سید الانبیاء ﷺ نے اپنی امت کو ملک فارس و روم کی سلطنت کا وعدہ کیا تو یہود و منافقین نے اس کو بہت بعد سمجھا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ (ﷺ) اور کہا فارس و روم کے بڑے ملک، وہ بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آخر کار حضور ﷺ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ (غزاں العرقان)

فائدہ

اس شان نزول میں صرف ایران و روم کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اس سے بڑھ کر مرشدہ سنایا جسے فقیر باب الحدیث میں عرض کرے گا۔

فائدہ

گویا یہ آیت نازل ہی اس لئے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں سے ملک چھین کر اپنے حبیب اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ فقیر نے اپنی تصنیف ”شان قدرت“ میں تفصیل سے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے کسریٰ کو خط لکھا تو اس نے آپ ﷺ کا خط مبارک پھاڑا اس سے قبل اس نے خواب میں دیکھا کہ اس سے خزانوں کی سنجیاں مجھے عطا فرمادی ہیں اس کا منافقین نے فوراً انکار فرمادیا اور صحابہ کرام سن کر خوش ہو گئے۔ آج تک وہی وراثت

جاری ہے ہم اس سنت ایسے مردہ سے خوش ہیں اور مخالفین کو بدستور منافقین کی طرح انکاری انکار ہے۔ اس سے ناظرین سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کس جماعت پر راضی ہے اور کس سے ناراضی۔

(۵) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادَنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (پارہ ۲۶، سورۃ مریم، آیت ۲۳)

ترجمہ: یہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے عطا کریں گے جو پر ہیزگار ہے۔

تفسیر

جمیع اللدائع سیدنا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم اس جنت کا وارث محمد مصطفیٰ ﷺ کو بناتے ہیں پس ان کی مرضی جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں۔ دنیا و آخرت میں وہی سلطان ہیں انہیں کے لئے دنیا ہے اور انہیں کے لئے جنت دونوں کے مالک وہی ہیں۔ (اخبار الاحیاء، صفحہ ۲۱۶)

فائده

یہ قول میں حدیث ہے جسے باب الحدیث میں انشاء اللہ ذکر کیا جائے گا اور اس کے شواہد بھی دیگر احادیث مبارکہ میں موجود ہیں مثلاً حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور ﷺ سے عرض کی کہ

مرافقتك في الجنة

www.faizanowaisi.com

جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں

تو آپ ﷺ نے انہیں فرمایا

او غیر ذلك

یعنی جنت مل گئی اور کچھ چاہیے

اسی لئے سیدنا عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ علی قاری رحمہم اللہ تعالیٰ نے (افعیۃ المعاشات، مرقاہ) میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتطعاً سل (اگر) کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ جسے جو چاہیں عطا فرمانے پر مختار ہیں۔ یہ لکھ کر شاہ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ نے یہ شعر لکھا

اگر خیریت دنیا و عقبی آرز و داری بدر گاہش بیا و ہر چیز مکتوہ ای تمنا کن

اگر دنیا و آخرت کی تجھے کوئی آرزو ہے تو حضور سرور عالم ﷺ کی درگاہ میں حاضر ہو کر جو چاہیے تمنا پیش کر دے ہر آرزو

پوری ہوگی۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو عطائے جنت

ایک دن حضور ﷺ کے دربار میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے تو آپ ﷺ نے انہیں فرمایا

لک الجنة علی یا طلحہ۔

اے طلحہ کل تمہارے لئے جنت میرے ذمہ ہے۔ (رواہ الطبرانی)

فائدہ

علی وジョب پر دلالت کرتا ہے جس سے اختیار نبی کا عقیدہ حقی اور حقیقی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اگر نبی ﷺ کوئی اختیار نہیں رکھتے (عازم اللہ) پھر خود پر کسی دوسرا سے کے لئے بہشت دینے کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ حضور سرور عالم ﷺ کیلئے ہیں۔

عطائے چشمہ جنت

جب مہاجرین مکہ معظمه سے بھرت کر کے مدینہ آئے یہاں کا پانی شور تھا مہاجرین کو پسند نہ آیا۔ نبی غفار کے ایک آدمی کی بملک میں ایک شیریں چشمہ تھا جس کا نام ”بیرونہ“ تھا وہ اس کنویں کی ایک مشکل نیم صاع میں فروخت کیا کرتے تھے۔ حضور مالک جنت ﷺ نے اس شخص سے فرمایا: **بعیها بعین فی الجنة**

یہ چشمہ میرے ہاتھ چشمہ جنت کے عوض پہنچ ڈال۔

انہوں نے عرض کی حضور میری معاش اسی چشمہ سے وابستہ ہے۔ میرے بال پچے اسی چشمہ کی آمد نی سے پرورش پاتے ہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی آپ رضی اللہ عنہ نے چشمہ کے مالک کو راضی کر لیا اور اس کو ۳۵ ہزار درهم میں خرید لیا پھر خدمتِ نبوی ﷺ میں عرض کی حضور اگر میں اس چشمہ کو خرید کر وقف کر دوں تو کیا سر کار ﷺ مجھے بھی اس کے عوض جنت کا چشمہ عطا ہوگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے بیرونہ خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا ہے۔ (بلبان) حاکم کے الفاظ یہ ہیں

اشتسنی عثمان بن عفان من رسول اللہ ﷺ الجنة مرتبین یوم رومہ و یوم جیش العسرة (رواہ الحاکم)

یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دو مرتبہ جنت کو خریدا۔ بیرونہ کے دن اور جیش عسرۃ کے دن۔

فیصلہ

جنت وہی بیچ سکتا ہے جو جنت کا مالک ہوا مالک کی طرف سے اس کو اس میں تصرف کی اجازت ہو۔ حضور ﷺ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جنت کا بیچنا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے لئے جنت کا ذمہ لینا اس امر کو واضح کر رہا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حضور ﷺ کی ملکیت میں دے دی ہے۔

عقیدہ ۵ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ

آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فضل کے معرفت تھے۔ آپ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا عثمان وہ ہیں جو ملائے اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔

حضور ﷺ نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح آپ ہی سے کیا۔

وَضْمَنَ لِهِ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ۔ (ابو ذئب)

اور حضور نے عثمان کے لئے جنت کا ذمہ بھی لیا ہے۔

(۲) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُرَ (بارہ، ۳، سورہ الکوثر، آیت ۱)

ترجمہ: اے محظوظ بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ نے اس کی منظوم تفسیر فرمائی۔

اے اعطینک الکوثر	ساری کثرت پاتے یہ ہیں
رب ہے معطی یہ ہیں قائم	رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے	ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے

فائضہ

بعض لوگ الفاظ "الکوثر" سے دھوکہ دیتے ہیں کہ اس سے صرف حوض کوثر مراد ہے۔ بخاری شریف میں ہے
الکوثر سے مراد "خیر کشیر" مراد ہے اور حوض کوثر بھی اس میں داخل ہے۔

قاعدہ

علم تفسیر کا قاعدہ ہے کہ قرآن کا وہ معنی جو عام ہو اور ہر شے کو شامل ہو وہی مراد یعنی بہتر ہے۔ کوثر کے معنی "خیر کشیر"

کے ہیں یعنی بہت زیادہ بھلا کی اور بہتری۔ یہاں اس سے کیا مراد ہے ”ابحر الحجۃ“ میں اس کے متعلق چیزیں (۲۶) اقوال ذکر کئے گئے ہیں اور آخر میں اس کو ترجیح دی کہ اس معنی کے تحت میں ہر قسم کی دینی و دینوی دلیلیں اور حسی و معنوی نعمتیں داخل ہیں جو کہ آپ ﷺ کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت حوض کوثر بھی ہے۔

مخالفین کا اعتراض

مولوی شبیر احمد عثمانی ترجمہ قرآن محمود الحسن دیوبندی کے حاشیہ میں تحت آیت ہذا وہی لکھا جو اپنے مذکور ہوا ہے۔

ہماری اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ

ہمارے اکابر اہل سنت یہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام اسماعیل حقی حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ”روح البیان“ میں

لکھتے ہیں

والاظہران جمیع نعم اللہ داخلة فی الكوثر ظاهره وباطنة فمن خیرات الدنيا والآخرة

و من الباطنة العلوم اللدنیہ۔

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ کوثر میں تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں داخل ہیں پس نعمت ظاہرہ سے دنیا اور آخرت سے خیر کثیر مراد ہے اور نعمت باطنی سے علوم الدینیہ مراد ہیں۔

سید المغفرین علامہ محمود آلوی اس کے تحت تفسیر ”روح المعانی“ میں فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں ہیں۔ تمام علمائے محققین کے نزدیک آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خیر کثیر اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کا اختیار عطا فرمادیا ہے اور اس کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

انی اعطيت مفاتیح خزانن الارض

مجھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چاہیاں دے دی گئیں۔

باب ۲

احادیث مبارکہ

(۱) حضرت اُم درداء سے مروی ہے کہ کعب احبار سے پوچھا گیا کہ تم توریت میں حضور ﷺ کی نعمت کس طرح پاتے ہو

فرمایا:

محمد رسول اللہ واعطی المفاتیح

محمد رسول اللہ ہیں اور آپ کو چاہیاں عطا ہوئیں۔ (رواہ تیمیٰ وابی قیم فی دلائل النبوة)

(ملخص اخلاق کبریٰ جلد ا، صفحہ ۱۱، درمنشور جلد ۲، صفحہ ۳۲)

فائده

یہ حوالہ توریت شریف کا ہے اور علم الاصول کا قاعدہ ہے کہ توریت کے غیر محرف اور غیر منسون خ حوالہ جات قبل جمیعت ہیں بالخصوص جو حضور سرور عالم ﷺ کے صحابہ سے مروی ہوں تو بلانکیر قابل قبول ہیں۔ حضرت کعب احبار ثقہ عالم یہود ہیں دولت اسلام سے نوازے گئے۔ ان سے شقہ راوی صحابیٰ حضرت اُم درداء روایت فرمائی ہیں تو قابل جمیعت ہے۔ حدیث طویل ہے ہم نے بقدر ضرورت نقل کیا ہے۔ توریت و انجیل و زبور آسمانی کتب ہیں تو یہ حوالہ بھی ارشاد بربانی میں داخل سمجھا جائے گا مزید اس طرح کے حوالہ جات آئیں گے۔ (اثاث اللہ)

(۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھوئے میں مصروف تھے اچاک ایک بڑا پتھر کل آیا جس پر چینی اور ہتھوارا کچھ اثر نہ کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ایک پتھر کی چنان لگن کل آئی ہے جو خندق کی کھدائی میں رکاوٹ ڈالی رہی ہے۔ آپ ﷺ اشریف لائے ہتھوارا تھے میں لے کر بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی تو وہ پتھر ایک تہائی ریزہ ہو کر بکھر گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کی سمجھاں عطا کی گئی، خدا کی قسم میں نے بلاشبہ شام کے سرخ محلات کو اس ضرب میں دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ضرب لگائی تو دوسرا تہائی توڑ کر فرمایا اللہ اکبر مجھے فارس کی سمجھاں عطا کی گئیں، خدا کی قسم میں نے مائن کے سفید کنگرے اس گھڑی دیکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے مائن کے کنگروں کی نشانیاں بتائیں اس پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی خدا کی قسم وہ کنگرے ایسے ہی ہیں جیسے آپ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے تیسرا ضرب لگائی تو تیرا حصہ بھی ریزہ ہو گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے مین کی سمجھاں مرحمت فرمائی گئیں جنہاً صنائع کے دروازوں کو بیہاں سے دیکھ رہا ہوں۔

(بخاری ونسائی، مدارج النبوت، صفحہ ۲۹۲، جلد ۲)

منافقین نے نہ مانا

نبی پاک ﷺ کے اس اعلان پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانے عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہ صرف مانا بلکہ بعد میں ان فتوحات پر حضور ﷺ کے علم غیب کی تصدیق کی لیکن منافقین نہ مانے چنانچہ روح البیان، پارہ ۲۱ میں لکھا ہے۔

الاعجبون من محمديمنيكم و يعدكم الباطل و يخبركم انه ينصر من يشرب قصورا كيسرة ومدان
كسرى و انها تفتح لكم و انت تحفرون الخندق من الفرق لا تستطعون ان تبرزواني
تجاوزوا الرحل و تخرجو الى الصحراء و تذهبوا الى البراري ما هذه الا غرور ولما فرغ رسول الله من
حضر الخندق على المدينة.

محمد رسول اللہ ﷺ کی عجیب باتیں تو دیکھو کہ وہ تمہیں دلائے دے رہے ہیں اور خالی وعدے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مدینہ کے محلات قیصر و کسری تمہارے قبضہ میں آئیں گے اور اپنایہ حال ہے کہ خندق کھود رہے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ ڈر کے مارے خندق سے باہر نہیں جاسکتے یہ صرف دھوکہ ہے۔ حضور ﷺ نے ان کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

لما خرج من بطني فنظرت اليه اذا أنا به ساجد ثم رأيت حتى سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء
حتى غيشه غريب عن وجهي - ثم تجلت فإذا أنا به موزنى ثوب صوف ابيض وتحته حريرة حضرا
وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللواء الربط و اذا قائل يقول قبض محمد على مفاتيح وبنصرا
ومفاتيح النبوة ثم اقبلت سحابة اخرى حتى غشيشة غريب عنى ثم تجلت فإذا أنا قد قبض على
حريرة حضرا مطوية اذا قابل يقول بع نج قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق
من اهلها دخل في قبضه هذا (مختصر)۔ رواه ابو نعيم

جب حضور ﷺ میرے شکم سے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ بجدے میں پڑے ہیں پھر ایک سفید ابر نے آسمان سے آ کر حضور ﷺ کو ٹھانپ لیا کہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے پھر وہ پر دہشاتو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ﷺ ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہیں اور سبز ریشمی پچونا بچھا ہے اور گوہرشاداب کی تین سنجیاں حضور ﷺ کی مٹھی میں ہیں اور

ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، ثبوت کی کنجیاں سب پر محمد ﷺ نے قبضہ فرمایا پھر اور اپنے آکر حضور ﷺ کو ڈھانپا آپ ﷺ میری نگاہ سے چھپ گئے۔ پھر وہن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز رشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور ﷺ کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے واہ واہ! ساری دنیا محمد ﷺ کی مٹھی میں آئی، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی ندرتی جوان کے قبضہ قدرت میں نہ آئی ہو۔ (المدشرب العلمن)

حافظ ابو زکریا یحییٰ بن عائذ اپنے مولد میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ رضوان خازن جنت علیہ السلام نے بعد ولادت حضور سید الکوئین ﷺ کو اپنے پروں کے اندر لے کر گوشِ اقدس میں عرض کیا

معک مفاتیح النصر قدالبست الخوف والرعب لا يسمع حد بذكرك الاجل فواده وخان
قلبه وان لم يرك يا خليفة الله۔

آپ ﷺ کے نصرت کی کنجیاں ہیں۔ رعب و بد بکا جامہ حضور ﷺ کو پہنایا گیا ہے جو حضور ﷺ کا چرچار ہے گا اس کا دل ڈرجائے گا اور جگہ کانپ آئے گا اگرچہ حضور ﷺ کو شدید کھانا ہو۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور مأک المفاسی ﷺ نے فرماتے ہیں

[www.fatimahowaisi.com]

بیننا انا نالم اذ جى بمفاتیح خزان الارض فوضعت فی يدی۔

(مشکوٰۃ صفحہ ۵۱۲)

میں خواب ناز میں تھا کہ تمام خزان زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

انتباہ

یہ روایت ان کتب احادیث میں ہیں جن پر منکرین کمالاتِ مصطفیٰ ﷺ اپنے مذهب کا دار و مدارک بخاتے ہیں مثلاً (صحیح بخاری جلد ۲، صفحہ ۱۰۳۸، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، دلائل الدوایۃ ابو القاسم صفحہ ۳۰، صحیح مسلم جلد ۱، صفحہ ۲۲۷) نیز یہی روایت صحابہ کی اور صحیح نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے اور کنز العمال صفحہ نمبر ۱۲۹ و ۱۳۰ جلد ۲ میں بھی یہ روایت مذکور ہوئی۔

بہر حال حدیث شریف نہایت صحیح اور معتبر ہے لیکن جس کا اپنا ایمان ضعیف ہوا ورنہ مانے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔

(۴) حضرت اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ کی صفت و شناخت انجلیل پاک میں مکتوب ہے۔

لافظ ولا غلظ ولا سخاب في الاسواف واعطى المفاتيح۔ (حاکم صحیح وابن سعد وابن قیم)

درشت ٹونڈ بازاروں میں شور کرتے ہیں انہیں کنجیاں عطا ہوئی ہیں۔

فائدہ

انجلیل شریف کے مضمین بھی ہمارے لئے جوت ہیں جب اس کی تائید ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ فرمادیں اس روایت کی تصدیق اور کیا چاہیے جب حضور ﷺ سے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہی ہیں۔

(۵) سیدنا علی الرضا کرم اللہ و جہا اکرم سے مروی ہے کہ حضور مالک و مختار فرماتے ہیں۔

اعطیت مالم یعط اجد من الانبیاء قبلی حضرت بالرعب واعطیت مفاتیح الارض۔

(احمد و ابن ابی شیبہ)

مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا، رعب سے میری مد فرمائی گئی (کہ مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرا نام پاک سن کر کاپنے) اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئی۔ (امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کی صحیحیت کی)

فائدہ

الارض اسم جنس ہے جو ساتوں طبقات کو شامل ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہر جگہ آسمان کے صیغہ جمع (اسوات) سے استعمال ہوئے ہیں اور زمین کے لئے "الارض" کا لفظ ہے۔ اس پر تمام اہل اسلام متفق ہیں کہ اس سے ساتوں طبقات مراد ہیں یہاں بھی ایسے ہیں۔ اب مقنی یہ ہوا کہ آپ ﷺ کو ساتوں زمینوں کی چاہیاں عطا ہوئی۔

(۶) مسنداً حموداً و سعیداً ابن حبان و ضياء مقدسي و سعید مختار و لائل الدبوة لابي نعيم بسن سعید سعید میں ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ فرماتے ہیں

بِمَا الدُّنْيَا عَلَى فَرْسِ ابْلُقِ جَاءَنِي بِهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ قَطْلَفَةُ سَنَدَسٍ۔

دنیا کی کنجیاں ابلق گھوڑے پر رکھ کر میری خدمت میں جبریل لے کر آئے اس پر نازک ریشم کا زین پوش با نقش و نگار پڑا ہوا تھا۔

امام احمد مندا و طبرانی مجھم کیسر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی حضور ﷺ فرماتے ہیں
اعطیت مفاتیح کل شنی الالخمس۔

مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا ہوئیں سو ان پانچ کے لیے غیوب خس۔

علامہ حنفی حاشیہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں

ثم اعطیت بھا بعد ذلك

یعنی پھر یہ پانچ بھر عطا ہوئی ان کا علم بھی دیا گیا۔

اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا۔ علامہ مذاہبی شرح فتح المکتب امام ابن حجر کی فرماتے ہیں یہی حق ہے۔ (مریم تصلیل نقیر کے رسالہ ”برہ الساعۃ علیم الساعۃ“ میں پڑھیں)
بعینہ یہی مضمون احمد والبیعلی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۷) حضور ﷺ فرماتے ہیں

ینصب لی یوم القيمة منبر على الصراط و ذكر الحديث الی ان قال ثم یاتی ملک فيقف على اول
مرتاۃ من منبری فینادی معاشر المسلمين من عرفنی فقد ومن لم یعرفنی فاما ملک خازن النار ان
الله امرنی ان ادفع مفاتیح جهنم الی محمد و ان محمد امرنی ان ادفع الی ابی بکر اشهد و ها
اشهد و اتم یقف ملک اخر على ثانی مرقاۃ من منبری فینادی معاشر المسلمين من عرفنی فقد
عرفنی ومن لم یعرفنی فانا رضوان خازن الجنان ان الله امرنی ان ارفع مفاتیح الجنة الی محمد و ان
محمد امرنی ان ادفع ها الی ابی بکر ها اشهدو ها ، اشهدو حدیث۔

روز قیامت صراط کے پاس ایک منبر پھایا جائے گا پھر ایک فرشتہ آکر اس کے پہلے زینے پر کھڑا ہو گا اور ندا کرے گا اے
گروہ مسلمانان ! جس نے مجھے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں ملک دار وغیرہ وزخ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں محمد ﷺ کو دوں اور محمد ﷺ کو حکم ہے کہ ابو بکر کو سپرد کر دوں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں
ہاں گواہ ہو جاؤ پھر ایک اور فرشتہ دوسرے زینے پر کھڑا ہو کر پکارے گا اے گروہ مسلمین جس نے مجھے پہچانا اس نے جانا
اور جس نے نہ جانا تو میں رضوان دار وغیرہ جنت ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں محمد ﷺ کو دوں
اور محمد ﷺ کا حکم ہے کہ ابو بکر کے سپرد کر دوں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔

(اورہ العلام ابراہیم بن عبداللہ الدین الشافعی فی الباب السالع من کتاب التحقیق فی فضل الصدیقین من کتابہ الافتقاء فی فضل الارجح الخلافاء)

(از ابن عبداللہ کتاب بہجۃ المجالس، الامن والعلی، صفحہ ۵۶، ۵۷)

(۸) حافظ ابو سعید عبد الملک بن عثمان کتاب شرف النبیہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں:

اذا كان يوم القيمة جمع الله الاولين وآخرين ويؤتى بمنبرين من نور فينصب احدهما عن يمين العرش ولا آخر عن يساره ويعلو هما شخصان فينادى الذى عن يمين العرش معاشر الخالق من عرفني فقد عرفني ولم يعرفني فانا رضوان خازن الجنة ان الله امرني ان اسلمها الى ابى بكر وعمر ليـد خلاً محبـبيـها الجنة الاـفـاشـهـدـ وـثـمـ يـنـادـىـ الذـىـ عـنـ يـسـارـ العـرـشـ مـعـاـشـرـ الـخـالـقـ منـ عـرـفـنـيـ فـقـدـ عـرـفـنـيـ وـلـمـ يـعـرـفـنـيـ فـاـنـاـ رـضـواـنـ خـازـنـ الـجـنـةـ انـ اللهـ اـمـرـنـيـ انـ اـسـلـمـهـاـ الـىـ اـبـىـ بـكـرـ وـعـمـرـ اـمـرـنـيـ انـ اـسـلـمـهـاـ اـبـىـ بـكـرـ وـعـمـرـ لـيـدـ خـلـامـ بـغـصـيـهـمـاـ الـنـارـ الاـفـاشـهـدـوـ

روز قیامت اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا اور دمبر نور کے لاکر عرش کے دائیں باسیں بچھائے جائیں گے ان پر دو شخص چڑھیں گے، دائیں والا پکارے گا اے جماعت تخلوق! جس نے مجھے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں رضوان دار و نظر بہشت ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی سنجیان محمد ﷺ کو پر درکروں اور محمد ﷺ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر و عمر کروں کہ وہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ پھر باسیں والا پکارے گا اے جماعت تخلوق! جس نے مجھے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں مالک دار و نظر دوزخ ہوں مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ دوزخ کی محمد ﷺ کو پر درکروں اور محمد ﷺ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر و عمر کروں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔

(واورہ ایضاً فی الباب السالِحِ مِنْ كِتَابِ الْأَحَادِيثِ الْغَرْبِيِّ فَضْلُ الْمُتَّهِيْنَ ابِي بَكْرٍ وَعَمِرَ مِنْ كِتَابِ الْأَكْفَاءِ) یہی معنی ہیں اس حدیث کو ابو بکر شافعی نے غیلانیات میں روایت کیا۔

ینادی يوم القيمة این الصحاب مـحمد ﷺ فـيـوـتـیـ بالـخـلـفـاءـ رـضـیـ اللـهـ تـعـالـیـ عـنـهـمـ فـيـقـوـلـ اللـهـ لـهـمـ اـدـخـلـوـ مـنـ شـتـمـ الـجـنـةـ رـدـعـواـ مـنـ شـتـمـ.

روز قیامت ندا کی جائے گی کہاں ہیں اصحاب محمد ﷺ پس خلفاء رضی اللہ عنہم لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم ہے چاہو جنت میں داخل کرو اور جسے چاہو چھوڑ دو۔

(ذکرہ الحـاطـمـةـ اـشـہـابـ الـخـافـیـ فـیـ تـیـمـ الرـیـاضـ شـرـحـ شـفـاعـ الـامـ اـقـاضـیـ عـیـاشـ فـیـ قـضـیـاـنـ فـیـ قـضـیـاـنـ مـاـ اـطـلـعـ عـلـیـ اـبـیـ الـقـلـمـنـ الـغـیـوبـ)

(الامن والعلی، صفحہ ۵۷)

(۹) امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ "جی القین" صفحہ ۲۲ میں لکھتے ہیں کہ

بعض روایات میں ہے کہ حق عزوجلالہ اپنے حبیب کریم ﷺ سے ارشاد فرماتا ہے

یا محمد ادانت نور نوری و سرسری و کنوز ہدایتی و خزانہ معرفتی و جعلت فدا الملک ملکی

من العرش الی تحت الارضین کلهم یطلبوون رضائی وانا اطلب اضلاک یا محمد ﷺ

اے محمد ﷺ تو میرے نور کا نور ہے اور میرے راز کار ازا اور میری ہدایت کی کائن اور میری معرفت کے خزانے میں نے اپنا ملک عرش سے لے کر تحت الاشیاء تک سب تجھ پر قربان کر دیا، عالم میں جو کوئی ہے سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد ﷺ۔

فائضہ یہ درود مستفاث میں بھی ہے لیکن قدیم مطبوعہ میں ہاں اب فقیر نے اسے ترتیب دیا ہے اسے قدیم
نحوں سے لیا گیا ہے۔

فائضہ

اس روایت میں حسب عادت انکار کر دیں گے لیکن ہم اصولی لحاظ سے حق بجانب ہیں اس لئے کہ اصول کا
قاعدہ ہے کہ جس روایت کا مطلب قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ حدیث معنا صحیح ہوتی ہے اور قابل قبول ہوتی ہے
باخصوص فضائل و مناقب میں۔ مزید تفصیل دیکھئے فقیر کی تصنیف "شرح حدیث لولاک" میں۔
(أصول فقہ، اسماعیل دہلوی والترف اشرف علی تھانوی)

(۱۰) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں

انا اول الناس خروجاً اذا بعثوا وانا قائدhem اذا وفد وانا خطيبهم اذا انصتوا مانا شفيعهم

اذا حبسوا وانا مبشر لهم اذا ينسسو الكرامة والمفاتيح يوم متذبدي ولو الحمد لله يوم متذبدي۔ (دارمی)

میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں
گے اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہونگے اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ محبوس ہوں گے اور میں خوشخبری دینے
والا ہوں جب وہ نا امید ہوں گے۔ عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں اور لواء احمد اس دن میرے ہاتھ ہو گا۔
(کذک فی ولأیں النبیۃ الابی نعیم، صفحہ ۲۸)

امام احمد رضا نے فرمایا الحمد لله رب العالمين شکر اس کریم کا جس نے عزت دینا اس دن کے کاموں کا اختیار اس

پیارے رَبِّ الرَّحْمَنَ کے ہاتھ میں رکھا۔ شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں

دران روز ظاہر گردک وے ﷺ نائب ملک یوم الدین اسے روز روز اوست حکم حکم رب العالمین۔

یعنی اس دن ظاہر ہو گا کہ آج کا دن حضرت محمد عربی ﷺ ہی کا دن ہے اور ان کا حکم رب العالمین کا حکم ہے۔

مدارج شریف میں فرمایا

”آمدہ آست کہ ایستادہ میکندہ اور پروردگار وے نئین عرش و دروایتے بر عرش و دروایتے بر کری و مے پسارو بیوی۔“

کلید جنت

اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو کھڑا فرمائے گا عرش کی دائیں طرف۔ ایک روایت میں ہے کہ کرسی پر بٹھا کر آپ ﷺ کو جنت کی سنجی پر فرمائے گا۔

فائدہ

ان روایات سے ثابت ہوا کہ جو مالک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکبر خلیفہ اعظم ﷺ کو عطا فرمائی ہیں خزانوں کی سنجیاں، زمین کی سنجیاں، دنیا کی سنجیاں، جنت کی سنجیاں، آرام کی سنجیاں، نفع کی سنجیاں، ہرشے کی سنجیاں۔

لطیفہ

تفوییۃ الایمان فصل علی اشراک فی الاعلم کے شروع میں لکھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سنجی ہوتی ہے قفل اُسی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے تو کھولے جب چاہے نہ کھولے۔ بھولا نادان لکھنے کو تو لکھ گیا مگر

کیا خبیری انقلاب آسمان ہو جائے گا ☆ دین بندی پاہمال نیاں ہو جائے گا

غیرب مسکین کیا جانتا تھا کہ وہ تو چندور ق بعدي یہ کہنے کو ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔

یہاں اسی کے قول سے تمام عالم پر محمد رسول اللہ ﷺ کا اختیار تمام ثابت ہو جائے گا۔ بیچارے مسکین کے دھیان

میں اس وقت یہی اور ہے پئیل کی کنجیاں تھیں جو جامع مسجد کی سیر گھر پر بساطی پیسے پیسے بیچتے ہیں۔ اس کے خواب میں بھی یہ خیال رکھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے رب جل وعلا نے اس بادشاہ جبار جلیل الاقتدار عظیم الاختیار ﷺ کو کیا کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔

امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ اس کے بعد خداوند فی یہ الحبیب ﷺ نقل فرمائ کر آخر میں لکھتے ہیں کہ ملاجی ذرا انصاف کی کنجی سے دیدہ عقل کے کواڑ کھول کر یہ کنجیاں دیکھتے جو مالک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے ناس پر اکبر، خلیفہ عظیم ﷺ کو عطا فرمائی ہیں۔ آخر میں فرمایا دیکھ جنت الہی یوں قائم ہوتی ہے۔

انتباہ

فقیر اپنے امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کی اتباع میں اپنے ہم زمان اور آنے والے مذکورین کمالات مصطفیٰ ﷺ کو دعوت غور فکر پیش کرتا ہے کہ جس نبی کریم ﷺ کا آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہو ان کے کمالات و محبذات کے متعلق شرک کی آڑ میں بخل سے کام نہ لوندہ کل قیامت میں مار کھا کر پچھتا و گے۔

(۱۲) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا
اعطیت خواتیم سورۃ البقرۃ و کان من کنور العرش و خصصت بها دون الانبیاء الی
ان قال والی المفاتیح الجنة۔ (ابن ماجہ)

مجھے سورہ بقرہ کی کچھی آیات کہ خزانہ ہائے عرش سے تمیں عطا ہوں گیں اور یہ خاص میرا حصہ تھا اور سب انبیاء علیہم السلام سے جدا اور میرے اختیار میں ہو گئی جنت کی کنجیاں۔ (رواہ ابو حیم)

ایک اور روایت میں ہے

واعطیتک خواتیم سورۃ البقرۃ من کنز تحت عرشی لم اعطیها نبیا قبلک رجعلتك فی
تعاو خاتما۔

اور میں نے تمہیں اس خزانے سے جو عرش کے نیچے ہے سورہ بقریٰ آخری آیتیں دیں آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں گیں اور میں نے تمام انبیاء سے اول اور آخر بنایا۔

قاسم رزق اللہ

سچ بخاری شریف کی حدیث مشہور ہے۔

عن معاویۃ يقول قال رسول اللہ ﷺ المعطی وانا القاسم۔ (سچ بخاری، جلد ا، صفحہ ۲۳۹)

فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں

انہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بالفاظ دیگر

انما انا قاسم و اللہ يعطی (بخاری صفحہ ۱۶، او مکملہ، صفحہ ۱۶)

بھی مردی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یوں ہیں

الله يعطی وانا اقسم۔ (طحاوی شریف، جلد ۲، صفحہ ۳۶)

اللہ تعالیٰ ہر شے عطا فرماتا ہے اور میں ہمیں ہر شے تقسیم فرماتا ہوں۔

انما انا قاسم بینکم۔ (طحاوی شریف، جلد ۲، صفحہ ۳۷)

بے شک میں قاسم ہوں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔

بخاری شریف کے دیگر الفاظ یوں ہیں

انما جعلت قاسماً اقسم بینکم بعثت قاسم اقسام بینکم فاما انا قاسم

انما انا قاسم اضع حیث امرت۔

(سچ بخاری، جلد ا، صفحہ ۲۳۹)

نکتہ جملہ روایات الفاظ مختلفہ کا مآل ایک ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر شے یعنی جملہ عالمین (عُشْتَاجْتَهُونَ)

کے ذرہ ذرہ کو حضور سرور عالم ﷺ کے مبارک ہاتھ سے رزق عطا ہوتا ہے۔ اس قاعدہ عربی سے عموماً ثابت ہے کہ

جهان فعل متعددی کا معمول (مشمول) نکرنا ہو وہاں اس متعلق کے جملہ افراد ہوتے ہیں۔ چنانچہ مرققات شرح مکملہ، جلد

۵۹۸ صفحہ ۵۹۸ میں ہے

و لا منع من الجمع كما يأده عليه حذن المفعول لنذهب انفسهم كل لمذهب

ويشر سبکل من ذلك المشرب۔


مختلف مطالب مرد لینے کے بجائے ان سب کا جامع معنی یہ ہے کہ ہر شے مراد ہو جیسا کہ مفعول کا محدود ف ہونا

دلالت کرتا ہے تاکہ ہر ایک اپنے گھاث پر جائے اور ہر ایک اپنے گھاث سے پانی پی سکے۔
اس کے بعد عموم کی وسعت کی تصریح یوں فرمائی کہ

الحاصل انی لست ابا القاسم بمجرد ان ولدی کان مسمی بقاسم بل لوحظ فی معنی القاسمیة
باعتبار القسمة الا زلیہ فی الامور الدينیة والدنيویة۔

خلاصہ یہ ہے کہ میں ابو القاسم اس نے نہیں کہ میرے صاحبزادے کا نام قاسم ہے بلکہ میرے میں حقیقی قاسمیہ ملحوظ ہے کہ
قسمت از لیہ امور دینیہ و دنیویہ میرے لئے مختص ہے۔

لطیفہ

حضور سرور عالم ﷺ کے کمالات میں تجھ ظرف لوگوں نے کہا کہ حضور ﷺ قاسم اس نے ہیں کہ آپ ﷺ علم
تقسیم یا مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں۔ دلیل یہ امام بخاری نے اسے باب **العلم والمخازی** میں بیان کیا ہے (والحمد لله
الی اللہ) 

ان **یتامی فی العلم** کو کون سمجھائے کہ حدیث کا قاعدہ ہے کہ احادیث ابواب کی محتاج نہیں بلکہ ابواب احادیث
کی محتاج ہیں اسی لئے کہ ابواب محمد شین کے ایجاد کردہ (بدعات جد) ہیں اور احادیث حضور سرور عالم ﷺ کے ارشادات
گرامی کا نام ہے انہیں ابواب کی محتاجی کیسی۔

علاوه ازیں امام بخاری نے صرف کتاب **العلم والمخازی** میں اس حدیث کا ذکر ہے بلکہ متعدد ابواب میں اس کا
ذکر ہے۔ یہ صرف تسلی دام از عشق مصطفیٰ ﷺ کا کرشمہ ہے ورنہ موجود پر آجائیں تو اپنے اکابرین کے لئے ”**قاسم العلوم
والخیرات**“ لکھنے کو ایک دینی خدمت سمجھتے ہیں۔ (الحمد لله والیا راجعون)

بانی دار العلوم دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی کی تصانیف اور اس کے ذکر میں لکھتے ہیں قاسم العلوم والخیرات وغیرہ
وغیرہ۔ اولیٰ غفرلة

لطیفہ

اگر کوئی خدا کا مکرر یہی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ صرف علم و غنیمت دیتا ہے تو کہو گے تو ثابت ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی
عطائیں عموم ہے حضور ﷺ کی تقسیم بھی عموم ہے۔

خازن نبی میتوالله

بخاری شریف میں ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں

قال رسول اللہ ﷺ انما انا قاسم و خازن والله يعطي۔ (صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۳۳۹)

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں قاسم و خازن ہوں اور اللہ تعالیٰ دعائے۔

باب نمبر ۳

اقوال اسلاف رحمهم اللہ تعالیٰ

(۱) علام علی قاری شرح شفاء میں فرماتے ہیں

اویت مفاتیح خزان الارض فوضعت فی يدی ای فی تصرف امتی -

(شرح شفاء، جلد ۱، صفحہ ۲۸۶)

یعنی حضور ﷺ نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی سنجیاں دے دی گئیں پھر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں یعنی میرے تصرف اور میری امت کے تصرف میں کردی گئیں۔

(۲) حضرت شیخ محقق مارج النبوة، صفحہ ۱۳۹، جلد ۱ میں فرماتے ہیں

دازاں جملہ آنست کہ دادو شدہ آنحضرت رَأَيْتَ مفاتیح خزانَ وَمِيرَهُ شدَّ بُوْ وَظَاهِرُهُ آنست کہ خداونَ ملُوك فارس و روم
ہمہ بدست صحابہ افتاد و باطن آنکہ مراد خزان آن جہاں عام است کہ رزق ہمہ درکف اقتدار اوے۔ پر دوقوت تربیت ظاہر و باطن ہمہ بوے داد چنانکہ مفاتیح غیب درست علم الہی تعمید اند آنرا مگر دے مفاتیح خزان رزق و قسمت آں دبہ دست ایں سید کریم نہاوند۔

حضور ﷺ کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کو خزانوں کی سنجیاں دے دی گئیں ان کا ظاہر تو یہ ہے کہ روم و فارس کے سلاطین کے خزانے صحابہ کے قبضہ میں آئے اور باطن تو یہی ہے کہ عالم کی جنسوں کے خزانے مراد ہیں کہ سب کارزق آپ ﷺ کے دست اقتدار میں دے دیا گیا اور ظاہر و باطن کی تربیت سب آپ ﷺ کو دے دی گئیں جیسے غیب کی سنجیاں علم الہی میں ہیں ان کو سوا کوئی نہیں جانتا رزق کے خزانوں کی سنجیاں اور ان کو قسم کرنا اس سید انبیاء کے قبضہ میں رکھا۔

(۳) یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

و ما در خزان آن معنوی مفاتیح آسمان وزمین و ملک و ملکوت ست تخصیص زمین ندارد۔ (اعظمه للمعات، جلد ۲، صفحہ ۲۰۵)

بہر حال خزان آن معنوی میں آسمان وزمین اور ملک و ملکوت کی تمام چاہیاں شامل ہیں تخصیص صرف زمین کی نہیں۔

(۴) اسی مدارج میں ہے

شارع را میر سد کہ تخصیص کند ہر کرد راخواہد بہرچہ خواہد۔ (مدارج، جلد ا، صفحہ ۱۵)

شارع علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہیں خاص کر دیں۔

(۵) علامہ ابن حجر عسکری فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں

من نفعهم رای الاولیاء للخلق ان برکتہم تغیث العباد ویدفع بها لفساد والفسدۃ الارض۔

(فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ ۲۲۱)

اولیاء کے مخلوق کو فتح پہنچانے سے یہ بھی ہے کہ ان کی برکت سے لوگوں پر بارش ہوتی ہے اور فساد و فتن ہوتا ہے
ورثة زمین فاسد ہو جائے۔

فائدہ



یا آپ ﷺ کے غلاموں کا حال ہے آقا کا حال خود بھئے مدارج

(۶) عارف باللہ علامہ احمد صاوی تفسیر صاوی میں فرماتے ہیں

فمن زعم ان النبی کاحد الناس لا يملک شیاً اصلاً ولا ينفع به لاظهر ولا باطننا فهو کافر
حاسد الدنيا و الآخرة۔

جزء فیضان اور دین (از صاوی، جلد ا، صفحہ ۱۵۸)

پس جس نے گمان کیا کہ نبی اور لوگوں کے برابر ہیں کسی چیز کے مالک نہیں نہ ان سے فتح پہنچتا ہے نہ ظاہر طور پر نہ باطن پر
تو وہ کافر ہے اور اس کی دنیا و آخرت بر باد ہے۔

(۷) حضرت شیخ شہاب الدین محدث خنجری حدیث مقام نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
وهدایدل علی ان اللہ تعالیٰ اعطاه ذلك حقیقة۔

(شیم الریاض، جلد ا، صفحہ ۲۷۴)

اس میں ولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو حقیقت نبیان کی چاہیاں بخشیں۔

(۸) یہی امام اسی حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں

و فی المواهی اللدنیا انها خزانن اجناس العالم بقدر ما يطلبون فان الا سم الالھی لا يعطيه الا

محمدًا (علیہ السلام) والقول بان المراد العنا صر و ما يتولد منه و انه لم يقبل ذلك تعف۔

(شیم الریاض، جلد ۲، صفحہ ۲۰۹)

المواہب اللدھی میں ہے کہ اس سے اجناں عالم کے خزانہ مراد ہیں اسی مقدار میں جو طلب کرتے ہیں اس لئے کام الہی یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو عطا کرتا ہے اور یہ مراد یعنی کہ اس سے عناصر مراد ہیں یعنی صحیح نہیں۔

(۹) امام قسطلاني شارح بخاري رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

هو خزانة السروم ضع نفوذا لا مر فلا ينفذ امر الا منه ولا ينقل خيرا الا عنه۔

یعنی نبی علیہ السلام خزانہ رازِ الہی اور جائے تفاذ امر ہیں کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور ﷺ کے دربار سے اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور ﷺ کی سرکار سے۔

(۱۰) ابن حجر عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۲۷۰ھ ۸۵۰ھ) فرماتے ہیں

عليه الصلوة والسلام خليفة الله الذي جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه و تحت ارادته
يعطى منها من يشاء ويمنع من يشاء۔

(الدر المختار، صفحہ ۳۲۲، طبع مصر)

بے شک نبی ﷺ اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خوان حضور ﷺ کے دست قدرت کے فرمازو اور حضور ﷺ کے زیر حکم وزیر ارادہ و اختیار کر دیے ہیں کہ جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے۔

(۱۱) علامہ مولانا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۴۰۰ھ) نے حدیث ربیعہ کی شرح میں ارقام کیا
یو خذ من اطلاقه عليه الصلوة والسلام الا مر بالسؤال ان الله تعالى مکنه من اعطاء كل ما اراد من
خاصاته وغيره ان الله تعالى اقطعه ارض الجنة يعطى منها ماشاء لمن يشاء۔

(مرقات شرح مکملہ، جلد ا، صفحہ ۵۵۰)

یعنی حضور اقدس ﷺ سے مانگنے کا حکم مطلق دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور ﷺ کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ (پھر کہما) امام این وغیرہ علماء نے حضور ﷺ کے خصائص کریمہ میں ذکر کیا ہے کہ جنت کی زمین اللہ عز و جل نے حضور ﷺ کی جا گیر کر دی ہے اس میں جو چاہیں جسے چاہیں بخشن دیں۔

(۱۲) برکة اللہ فی الہند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ بالقوہ تصرف و قدرت و سلطنت وے (علیہ السلام) زیادہ برالیعنی تصرف و سلطنت سلیمان علیہ السلام یود و ملک و ملکوت جن و انس و تمامہ عوالم ہتھ پر یا تصرف الہی عز و علا و حیطہ قدرت و تصرف وے بود۔
(افہم المعمات، جلد ا، صفحہ ۳۳۲)

بالقوہ حضور ﷺ کی قدرت و سلطنت اور تصرف سلیمان علیہ السلام کے تصرف سے بڑھ کر تھا س لئے کہ آپ ﷺ کا تصرف ملک و ملکوت اور جن و انس اور جملہ عالم میں تھا عطا نے اللہ تعالیٰ۔

(۱۳) ابن قیم نے کہا کہ

ان کل خیر نالہ امته فی الدنیا الآخرہ فاما ماقوله علی یدہ (علیہ السلام)۔ (مطالع المسرات، صفحہ ۳۳۳)
دنیا اور آخرت کی ہر خیر حضور ﷺ کی امت کو حضور ﷺ کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہے۔

ان کے علاوہ بے شمار حوالہ جات پیش کئے جاسکتے ہیں مانے والے کے لئے ایک دو حوالے بھی کافی ہوتے ہیں
مکر ضدی کے لئے دفتر بھی بیکار۔

باب نمبر ۴

اعتراضات کے جوابات کے قواعد

قاعدہ

منکرین کے سوال سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور ﷺ کا مختار کل ہونا یا آپ ﷺ کے قبضہ میں خزانہ الہیہ کی چاہیاں مخابن اللہ عطا ہونا آپ ﷺ کے قبضہ میں خزانہ و فضا کل کے ابواب سے ہے۔ اس باب میں نصوص کے ارشادات و اخبار احادیث میں تک کہ ضعفاء بلکہ بقول مولوی اسماعیل دہلوی حدیث موضوع مویدہ بحدیث دیگر بھی قبلی قبول ہے۔ (أصول فقة، صفحہ ۳، مطبوعہ مجتبائی دہلوی)

اور وہ فقیر نے قرآنی آیات کی نصوص اور اخبار احادیث سے ثابت کر دیا ہے جن میں حضور نبی پاک ﷺ نے اپنے ارشادات گرامی میں صاف تحریر فرمایا ہے

راعطیت رویت

میں عطا کیا گیا ہوں یعنی خزانہ کی کنجیاں۔

بلکہ صاف فرمایا

فوضعت فی يدی

میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں

بِلَكَهُ احْدِيَثُ مُحَمَّدٍ مَذْكُورٍ بِالْأَمْسِ قِصَّهُ كَالْفَظُ صَرِيعٌ هُنَّ مُخَلِّفِينَ حَضُورُ سَرِيرِ عَالَمٍ وَلَا يَكُونُ لَهُ كَا صَرْفٍ إِنْ كَارَ كَرَتْ تَوْبَجِي بِرَبِّي بَاتْ هُنَّ هُنَّ كَمَالَاتٍ كَمَالَاتٍ كَأَنْكَارَ كَرَرَے۔

یہود و نصاریٰ سے بُرْہ کر

مُنْكِرِینَ كَمَالَاتٍ مَصْطَفِيٰ وَلَا يَكُونُ لَهُ كَا صَرْفٍ إِنْ كَارَ بِلَكَهُ قَاتِلِينَ كَمَالَاتٍ كَمَالَاتٍ كَأَنْكَارَ كَرَرَے كَاجْتَنَا فَسُوسٍ كَيَا جَاءَ كَمٌ هُنَّ اس لَئِنْ كَانَ كَأَيْ طَرْفٍ تَوْدِعَيٰ هُنَّ هُنَّ أَمْتَ مَصْطَفِيٰ وَلَا يَكُونُ لَهُ كَا صَرْفٍ إِنْ كَارَ بِلَكَهُ قَاتِلِينَ كَمَالَاتٍ كَمَالَاتٍ كَأَنْكَارَ كَرَرَے لَيْكَنْ دُوْرِي طَرْفٍ نَصْرَفُ إِنْ كَارَ بِلَكَهُ قَاتِلِينَ كَمَالَاتٍ كَمَالَاتٍ كَأَنْكَارَ كَرَرَے كُوْمَشِرُكُ اُورُ كَا فَرْكَا فَرْكَتِيْبَنِيْسَ تَحْكِيَتَے۔ پھر ان سے یہود و نصاریٰ اچھے ہے کہ وہ اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعریفوں سے نصر خوش ہوتے ہیں بلکہ جعلی سندات گھر لینے کو باک نہیں سمجھے اور ان کا حال یہ ہے کہ صریحی مضمایں قرآنی تک کے انکار کو عافیت سمجھتے ہیں۔

دواہم سوال

(۱) الحمد للہ فقیر نے نہ صرف مسئلہ بُلکہ اپنے دوسرے عقائد و مسائل کی طرح تصریحات پیش کئے۔ ہمارا مُنْكِرِینَ سے سوال ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں ایک دلیل قطعی التوثیق قطعی الدالۃ اسی پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں اس بات کی تصریح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ وَلَا يَكُونُ لَهُ كَا صَرْفٍ إِنْ كَارَ بِلَكَهُ قَاتِلِينَ كَمَالَاتٍ كَمَالَاتٍ كَأَنْكَارَ كَرَرَے کے لئے عطا کیں نہ عطا کرے گا۔

(۲) مخالفین مذکورہ بالاعقیدہ رکھنے پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ علم العقائد کا قانون ہے کہ فتوائے کفر و شرک کے لئے صریح نص چاہیے جیسے غلام احمد قادریانی کو کافر اس لئے کہا گیا کہ اس نے صریح نص (غَاتِمُ الْمُنْكِرِ) کے خلاف کیا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مخالفین کے پاس ایک بھی صریح نص نہیں بلکہ محض گمان اگر مگر، چنانچہ ہے اور الحمد للہ ہم نے ابواب سابقہ میں صریح الفاظ تحریر کئے ہیں۔

الله تعالیٰ کا فرمان

اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بھی فیصلہ سنایا ہے کہ وہ محض گمان اور انکل پچھو سے کام لیتے ہیں اس لئے ان کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ هُلِ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ كُفْخُرُ جُوْهُ لَنَا إِنْ تَسْتَعْنُ أَلَّا الْفَلَنَ وَإِنْ أَنْتُمْ لَا تَخْرُصُونَ (پارہ ۸، سورۃ الانعام، آیت ۱۳۸)

ترجمہ: تم فرمادیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لئے ہکا لوم تو زرے گمان کے پیچھے ہوا اور تم یونہی تجھیں

کرتے ہو۔

قاعدہ

اسلام کا مسلم قاعدہ ہے کہ جو دعویٰ صحیح الفاظ کے ساتھ ہواں کے مقابلے میں محض گمان پچھنچینہ اگر مگر چنانچہ، چونکہ ہودہ کسی کام کی دلیل نہیں بلکہ مگر اسی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ (پارہ ۲۷، سورۃ النجم، ایت ۲۳)

ترجمہ: وہ توڑے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچے ہیں۔

فائدہ

تحریر شاہد ہے کہ چنانچا غافلین دلائل پیش کرتے ہیں ان میں صریح الفاظ نہیں ہوتے محض اپنے گمان اور خواہشوں نفسانی پرسوال بنا لیتے ہیں مثلاً ان کے آنے والے دلائل میں آئے گا کہ اگر حضور ﷺ کے پاس اللہ تعالیٰ کے کل خزانوں کی چاہیاں تھیں تو آپ ﷺ کے گھروں میں کئی ماہک فاقہ وغیرہ کیوں رہتا۔

صریح الفاظ اور گمان و تخمینہ کا مقابلہ

ہمارے دلائل قارئین کو ملاحظہ ہوں کہ آیا ان میں حضور نبی پاک ﷺ کے کمالات کے اظہار میں ہم نے تصريحات پیش کی ہیں اور غافلین کے دلائل دیکھیں گے ان میں محض گمان اور تخمینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حق صریح کے مقابلہ میں گمان و تخمینہ بے کار ہے۔ چنانچہ فرمایا

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (پارہ ۲۷، سورۃ النجم، ایت ۲۸)

ترجمہ: اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں وہ توڑے گمان کے پیچے ہیں اور یہ نکل گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔

قاعدہ

منکرین کمالات مصطفیٰ ﷺ کے کمالات کی لفی میں مثلاً یہی کہ آپ ﷺ کو کوئی اختیار نہ تھا ایسا آپ ﷺ کے پاس خدا کے خزانوں کی کنجیوں کی لفی میں سید عالم ﷺ پر جتنی آیات و دیگر دلائل بیان کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں (۱) ذاتی کی لفی نہ عطا کی کی (۲) قبل از عطا کی لفی (۳) اللہ تعالیٰ کے لئے ذاتی ملکیت کا ثبوت یہ بھی لفی عطا کو تنزل نہیں یا (۴) تواضع حضور ﷺ نے اپنے سے لفی فرمائی (۵) خلاف اذان و خلاف مشیت و خلاف ارادہ الہیہ کے اختیار کی لفی، ترک افضل پر جو یہ فرمایا گیا کہ اس طرح نہ کرنا تھا لیکن اب چونکہ کردیا الہذا سبی ہم برقرار ہے گا۔

اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی جیسے اساری بدر کے فدیہ پر فیصلہ رسول اللہ ﷺ کو ہی بالآخر برقرار رکھا وغیرہ وغیرہ۔ ان اجتماعی اعتراضات کی تفصیل فقیر کی کتاب ”اختیار الکل المختار الکل“ میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں سرسری طور پر چند سوالات لکھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی تاکہ قارئین غور فرمائیں کہ یہ اعتراضات کیسے اور کون اور کیوں کر رہا ہے۔

سوال

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (پارہے، سورۃ الانعام، آیت ۵۹)

ترجمہ: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے۔

جواب

اس کے مفصل جوابات فقیر کی کتاب ”غایی المامول فی علم الرسول“ میں ہیں۔ یہاں اتنا کافی ہے کہ مخالفین کی عادت ہے کہ صرف اپنے مقصد کا جملہ پڑھ کر کھدیتے ہیں آگے پیچھے نہیں اور کیتھے حالانکہ مضمون کا تعلق صرف ایک جملہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے سیاق و سبق اور مکمل آیات پڑھنے سے متعلق ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ایک آیت مجمل ہوتی ہے تو اس کی تفصیل دوسرے مقام پر ہوتی ہے یہاں اسی جملہ کے آگے یہ آیت مکمل یوں ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتْبٍ مُّبِينٍ (پارہے، سورۃ الانعام، آیت ۵۹)

ترجمہ: اور جانتا ہے جو کچھ خلکی اور تری میں ہے اور جوچتا گرتا ہے وہا سے جانتا ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندر ہیریوں میں اور نہ کوئی تراورثہ خلک جو ایک روشن کتاب میں لکھا ہے ہو۔

نتیجہ

آیت کے ابتدائی جملہ کے بعد کے مضمون نے واضح کر دیا کہ ہر ادنیٰ اعلیٰ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہے اور لوح قلم نبی پاک ﷺ کے علوم بحرے کے کنار کا ایک قطرہ ہے۔ حضرت امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

— وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلْمَ

اور آپ کے علوم میں سے لوح و قلم ایک معمولی حصہ ہے

بلکہ ہر فقیر نے اپنی تصنیف "لوح محفوظ" میں ثابت کیا ہے کہ لوح محفوظ توہر وقت ہر آن حضور سرور عالم ﷺ کے غلاموں کے سامنے ایسے ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی۔

انتباہ

انہی علوم غیریہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کیوں لکھا دیا معاذ اللہ رب تعالیٰ کو اپنے بھول جانے کا اندریش تھا بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں کو بتانے کے لئے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔

جواب ۲

یہ آیت مکیہ ہے کہ معظوم میں اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین کے غلط نظریات و عقائد کا طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ سب کچھ بتوں کے لئے عقیدہ رکھتے اور اگر کوئی بات غیریہ مانتے تو اس کا ذریعہ حساب و عقل وغیرہ کو سمجھتے، آیت کے مابعد میں انہی کفار کی تردید ہو رہی ہے۔ اس لئے ان کی تردید میں فرمایا کہ علم غیر حساب سے عقل سے حاصل نہیں ہوتا یہ توب کی خاص ملک ہے۔ اس کے پاس ہے جسے وہ دے اسے ملے بتوں کے متعلق کا عقیدہ بھی غلط ہے اور عقل و حساب کا تصور بھی باطل اور یہ طریقہ خاص انہی مقامی الغیب کے متعلق ہے۔ کفار کے ہر غلط سوال اور باطل عقیدہ کے متعلق یہی روشن رہی کہ یا تو عموم طور پر کوئی کوئی جانی جس میں فوتو حضور ﷺ میں ہوئی اور انہیں ہوتے یا خود حضور ﷺ پا ہجڑا ظاہر فرمائے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر فرمادیتے۔ یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخْلٍ وَعِنْبٍ فَفَجَرَ الْأَنْهَرُ خَلَلَهَا تَفْجِيرًا ۝ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلِكَةِ قَبِيلًا ۝ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقُى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِبِيْرًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْنِ هُلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ (پارہ ۱۵، سورۃ الاسراء، آیت ۹۰-۹۳)

ترجمہ: اور بولے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ بھاڑو۔ یا تمہارے لئے بھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو چکر تم اس کے اندر بھتی نہیں رواں کرو۔ یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے مکڑے مکڑے یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ۔ یا تمہارے لئے طلائی گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب شاتار و جو ہم پڑھیں، تم فرماؤ پا کی ہے۔ میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بیٹھا ہوا۔

یہ آیات کیہے اور کفار کے سوالات کا جواب وہی جو عموماً کمی زندگی میں حضور ﷺ نے اہل مکہ کو دیا تھا افسوس ہے کہ کمالاتِ مصطفیٰ ﷺ کے منکرین نے اس آیت کے متعلق بھی وہی کہا جوان کی گندی عادت ہے۔ لیکن اہل النصف فرمائیں کہ آیات کا ایک ایک جملہ مجزہ ہے۔ ایک بار نہیں بارہا حضور سرورِ عالم ﷺ نے مدنی زندگی میں واضح طور پر اہل اسلام کو دکھائے تو جیسے ان آیات کے متعلق کہنا پڑتا ہے کہ آپ ﷺ نے کمی زندگی میں کفار کے جواب میں جملہ امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف پر فرمایا کہ کفار کو اصل موضوع درسِ توحید کی طرف متوجہ فرمایا ایسے ہی آیت مذکورہ بالا میں ہے۔

مفاتیح الغیب

غیب کی کنجیوں سے بقول مخالفین اور بعض مفسرین مراد وہ پانچ علوم ہیں جو سورۃ القمان کے آخر میں مذکور ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (پارہ ۲۱، سورۃ القمان، آیت ۳۲)

ترجمہ: یہ کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔

چونکہ وہ پانچ لاکھوں غیبوں کے کھل جانے کا ذریعہ ہیں اس لئے انہیں غیب کی کنجیاں فرمایا گیا اور یہ بھی ہمارے مدعا کے مخالف نہیں کیونکہ حضور سرورِ عالم ﷺ ان علومِ خمس سے بھی نوازے گئے۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”طوعِ اشنس فی علومِ الخمس“ میں۔

سوال

حضور ﷺ کے لئے کنجیوں کی عطا کا ثبوت توراة و انجیل کے حوالوں سے ہے اور ہمیں توراة و انجیل سے کیا غرض؟

جواب نمبر ۱

یقین ہے

۔ ”بہانہ خور عذر بہ بیزار“

بہانے خوروں کے سامنے ہزاروں عذر ہوتے ہیں۔

ناظرین غور فرمائیں کہ فقیر کے بیان کردہ حوالہ جات میں تو توراة و انجیل کے صرف دو حوالے ہیں ان کے علاوہ درجنوں حوالہ جات بخاری، مسلم، نسائی، ابویعیم وغیرہ مخالفین کو کیوں نظر نہ آئے۔ اگر واقعی انہیں دین کا درد ہے تو صرف وہ دو حوالے نہ مانیں باقی حوالہ جات کی روشنی میں اقرار کریں۔

جواب نمبر ۲

تورات و انجلیل سے سید عالم ﷺ کا بالواسطہ یا با واسطہ نقل کرنا جرم نہیں یہی علماء و مفسر صاحبین کا دستور رہا ہے مثلاً امام سیوطی، امام بن القیم و امام حکم و امام ابن سعد اور عطی المفاسیح کو تورات و انجلیل سے بالواسطہ یا با واسطہ راویان نقیلین یہاں تک کہ حضرت کعب حضرت اُم الدراء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین و دیگر صحابہ کرام و تابعین عظام و ائمہ مجتهدین اور علمائے دین از خیر القرون تا حین سب نقل کرتے آئے اور نقل کر رہے ہیں۔

جواب ۳

قرآن شریف شاہد ہے کہ تورات و انجلیل میں مدح سید عالم ﷺ موجود ہے مثلاً:

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ (پارہ ۹، سورۃ الاعراف، آیت ۱۵۷)

ترجمہ: جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجلیل میں۔

اور ان پر ایمان لانا مطلوب ہے۔ مثلاً **قال اللہ تعالیٰ:**

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (پارہ ۱، سورۃ البقرۃ، آیت ۲)

ترجمہ: اور وہ کہ ایمان لا کیں اس پر جو اسے محبوب تمہاری طرف اتر اور جو تم سے پہلے اڑا۔

نیز مکملہ شریف صفحہ ۲۸۵، ۵۱۲، حجج بخاری، جلد ا، صفحہ ۲۸۵ و جلد ۲، صفحہ ۲۱۷ میں تورات سے حضور ﷺ کی مدح منقول

ہے۔ عبداللہ بن عمر و صحابی (جو قرآن شریف اور تورات کی تلاوت کرتے تھے اور تورات سے حضور ﷺ کی مدح لوگوں کو بتاتے تھے) نے خواب دیکھا میرے ایک ہاتھ میں شہدا و دوسرا ہاتھ میں مکھن ہے۔ حضور ﷺ نے اس خواب کی درج ذیل تعبیر بیان فرمایا کہ تورات کی تلاوت اور اس سے اپنی مدح لفظ کرنے کی تغیب وی کردہ شہدا و مکھن قرآن و تورات کی تلاوت ہے۔ (عدۃ القاری)

سوال

خزانوں کے مالک کیسے ہیں جبکہ آپ ﷺ فاقہ میں بنتا رہتے، کئی دنوں تک گھر پر کھانا نہ پکتا، بھوک مٹانے کے لئے بارہا پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے وغیرہ وغیرہ؟

جواب

نبی پاک ﷺ کے کمالات کے مکرین کی نگاہ صرف آپ ﷺ کی بشریت پر رہتی ہے اور وہ بھی اپنی بشریت پر

قياس کر کے حالانکہ یہ مانا ضروری ہے کہ آپ ﷺ کی بشریت تعلیم لامۃ کے لئے ہے ہم بشریت میں مجبور، کمزور اور ضعیف ہیں۔ آپ ﷺ نے ہماری تعلیم کے لئے بشریت کی کمزوری دور کر کے ملکوتوں سے سبقت لے جانے کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ میں نوری طاقت کے باوجود بشریت کا طریقہ فرمایا مثلاً آپ ﷺ میں یکصد بہشتیوں کی طاقت کے باوجود آخر عمر مبارک میں پیشاب مبارک کے لئے چار پائی کے نزدیک پیالہ رکھنے کا حکم فرمایا اور اس میں پیشاب مبارک کا بھی ہے بی بی اُم بر کہ کوپنا نصیب ہوا تو آپ ﷺ نے انہیں بہشت کی نوید سنائی (ابن حیث کی حدیث اور مزید تحقیق فقیر کی تصنیف ”فضولات رسول“ میں پڑھئے یہ رسالہ فیض عالم میں شائع ہوا ہے) مدت العمر پیش کی بیماری میں بدلانہیں ہو گئی۔ یہ بوڑھوں کی تعلیم کے لئے تھا ایسے ہی نماز پڑھنے کے تشریف لے جاتے اور بحالت بیماری دو صحابیوں (حضرت عباس و حضرت علی الرضا علیہ السلام کا سہارا لی) تاکہ بیماروں (بلکہ متدرستوں) کو نماز کی اہمیت اور تعلیم نصیب ہواں طرح کے بے شمار نظائر فقیر کی تصنیف (البشریہ تعلیم لامۃ) میں ہیں (یہ رسالہ فیض عالم میں قسط و ارشاد ہو چکا ہے) آپ ﷺ کا فقر و فاقہ متاجی اور مجبوری سے نہ تھا بلکہ الفقر و فخری کے پیش نظر تھا ورنہ خود فرمایا

لوشت لسارت معنی الحجات ذہبہ۔ (مشکوٰۃ)

اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے نظر آئیں

اور آپ ﷺ نے ہزاروں بھوکوں کو ایک نگاہ کرم سے پیٹھ بھر کر کھانا کھلایا بلکہ بہتوں پر نگاہ نبوت سے سرے سے بھوک کا اشتباہ (خواہش) مٹا دیا بلکہ یوسف علیہ السلام کے لئے تو مخالفین مانتے ہیں کہ ان کے دیدار سے بھوکوں کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ حالانکہ یہ ہی کیفیت حضور ﷺ میں بطریق اتم و اکمل تھی کہ نہ صرف بھوک بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صحاح ستہ میں شواہد موجود ہیں کہ آپ ﷺ کے دیدار سے بھوک بھی اور ہزاروں دکھ در دل جاتے۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”البشریہ تعلیم لامۃ“ میں۔

سوال

اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی سنجیاں ایک خچر کا بوجھ (جیسا کہ تم نے ابوالیم کی روایت نقل کی ہے) اور قاروں کے خزانے کی چاپیاں چالیس اونٹوں کا بوجھ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی اتنی بڑی چاپیاں اور اللہ مالک کی بہت کم۔

جواب ۱

معترض نے عقل کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی چاپیاں بھی اسی لو ہے پتیل کی سمجھ لیں جیسا کہ معترضین کی عادت ہے

حالانکہ دو عالم ملکوت کی کنجیاں تھیں جنہیں خدا جانے اور اس کا پیارا رسول ﷺ ۔

جواب ۲

اور خچر بھی یہی سمجھ رکھا جو ہمارے ہاں بوجھ اٹھاتے، ماریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کر لانے والا وہی

جریئل علیہ السلام ہے جو شبِ معراج براق لے آئے اور یہ بھی اسی براق کی جنس کا خچر تھا تو جس طرح اس براق کی پرواز کا

بیان احادیث میں پڑھا جہاں عقل پکرا جاتی ہے تو چاپیوں کا تصور اسی پر سمجھ لوتو مسئلہ سمجھا جائے گا۔ اگر ضد برائے ضد
ہے تو پھر تا قیامت سمجھنیں آئے گا۔

آخری فیصلہ

فقیر نے قرآن و احادیث اور اقوال اسلاف سے حضور رسول عالم ﷺ کے لئے مندرجہ ذیل امور کی کنجیاں و

خزانوں کی صراحة پیش کی ہے مثلاً (۱) مفاتیح (چاپیاں) (۲) ملک فارس (۳) ملک شام (۴) ملک یمن کی چاپیاں

(۵) نفرت (۶) نبوت کی کنجیاں (۷) دنیا قبضے میں (۸) مفاتیح خزانِ الارض (زمیون کے خزانوں کی کنجیاں) (۹) مفاتیح

کل شی (تمام اشیاء کی کنجیاں) (۱۰) مفاتیح نار (جہنم کی چاپیاں) (۱۱) مفاتیح الجہت (ہشت کی کنجیاں) (۱۲) ہدایت کے کنوں

(خزانے) (۱۳) معرفت کے خزانے (۱۴) عرش تחתِ العرشی (نی پاک ﷺ پر پچاہ کر دیا گیا) (۱۵) میدانِ حرث میں مفاتیح

آپ ﷺ کے ہاتھ میں (۱۶) لفظ کی کنجیاں (۱۷) کنوں العرش یعنی عرش کے خزانے (۱۸) خزانوں کی کنجیاں

(۱۹) خزانِ رزق کی کنجیاں (۲۰) خزانِ معنوی آسمان و زمین (۲۱) ملک و ملکوت کی چاپیاں (۲۲) خزانِ کرم

و نعم (۲۳) مفاتیح الغیب وغیرہ وغیرہ۔

الحمد لله ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں رسول اللہ ﷺ و عطا ہوئیں کیونکہ دینے والا خدا عز و جل اور

لینے والے مصطفیٰ ﷺ اس کا معاملہ وہی جانتا ہے جسے یہ عقیدہ نصیب ہے۔

محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

مکرین کم از کم ایک روایت کہیں سے نکال لائیں جس میں صاف لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو کسی قسم کی کوئی چابی نہیں دی لیکن ہوتے تو پھر فقیر کی مانیں کہ منافقین کے انکار کی وراشت سے بچو ورنہ ان کی طرح **الدرک** الاسف ل من النار نصیب ہو گا۔

واعلیمنا الالبلغ

هذا آخر ماسطره

القیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان کے اشعبان، ۱۴۲۷ھ شبِ اتوار

